

قُرْآنی دُعائیں

اور

چہل احادیث

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ-

(القر 18)

ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے پس کوئی ہے یاد کرنے والا؟

Og vi har visseilig gjort Quranen lett (å la seg) formane av,  
finnes det da noen som vil tenke seg om?

شائع کردہ شعبہ تعلیم

لجنہ اماء اللہ نا رومے

## دُعائیہ تحریک

بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خطبہ جمعہ 30 مئی 2014

سورۃ الفاتحہ (کثرت سے پڑھیں) درود شریف (نماز میں پڑھا جانے والا کثرت سے پڑھیں)

1- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا ہے۔

I Allahs navn. den Nåderike, den Barmhjertige.

۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

ترجمہ: تمام حمد اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

All lovprisning tilkommer (alene) Allah, verdenenes Herre.

۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ترجمہ: بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

Den Nåderike, den Barmhjertige.

مَا لِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

ترجمہ: جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔

Dommedagens Hersker.

۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝

ترجمہ: تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔

Den (alene) tilber vi, og hos Deg (alene) Søker vi hjelp.

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ لَا

ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔

Led oss på den rette vei.

○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ترجمہ: ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔

Veien til dem Du har vist Din nåde, ikke til dem som har pådratt seg (din) vrede, og ikke de villfarnes.

2-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

ترجمہ: اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر فضل نازل فرما۔ جس طرح تو نے ابراہیم

علیہ السلام اور آپ کی آل پر فضل نازل فرمایا۔ یقیناً تو بہت حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی

اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی

آل پر

برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو بہت حمد والا اور بزرگی والا ہے۔

Velsign, å Allah Muhammad og Muhammads folk, slik Du

velsignet Abraham og Abraham folk, Du er sannelig den prisverdige, den majestiske.

Gi lykke, å, Allah, til Muhammad og til Muhammads folk, slik Du ga lykke til Abraham og til Abraham folk. Du er sannelig den prisverdige, den majestiske.

3-سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ -

پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ۔ پاک ہے اللہ جو بہت عظیم ہے۔ اے اللہ رحمتیں بھیج آپ ﷺ پر اور آپ کی آل پر۔

Hellig er Allah og all lovprisning tilkommer deg(alene); Hellig er Allah den aller størst, velsign, Å Allah, Muhammad oh Muhmmads folk.

4-أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ -

ترجمہ: میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔

Jeg søker Allahs tilgivelse for alle mine synder og vender meg til Ham.

5-رَبَّنَا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ○

(البقرة: 251)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم پر قوت برداشت نازل کرا اور (میدانِ جنگ میں) ہمارے قدم جمائے رکھ اور (ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر۔ (خزینۃ الدعاضی: 11)

Vår Herre, la utholdenhet strømme ned over oss, og styrk våre føtter og gi oss hjelp mot det vantro folk.

6- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ (آل عمران: 9)

ترجمہ: اے ہمارے رب! تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کرا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت (کے سامان) عطا کر۔ یقیناً تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ (خزینۃ الدعاضی: 11)

Vår Herre, la ikke våre hjerter forderves etter at Du har rettleidet oss, og skjenk oss barmhjertighet fra Deg, for Du er alene den som skjenker (alleting).

7- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نَحْوِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

ترجمہ: اے اللہ! ہم کرتے ہیں تجھے مقابلہ میں ان کافروں کے اور پناہ مانگتے ہیں تیری اُن کے تمام شر اور مضر اثرات سے۔

Å Allah, vi tar deg som skjold mot våre fiender, og vi søker tilflukt hos deg fra deres ondskap.

8- رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمٌ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَاَنْصُرْنِيْ وَاَرْحَمْنِيْ۔

ترجمہ: اے میرے رب ہر ایک چیز تیری خادم ہے۔ اے میرے رب پس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔

O min herre, enhver ting er under Din kontrol. Så O min herre, beskytt meg, hjelp meg og vis meg nåde.

9- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ O (آل عمران: 148)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمارے قصور (یعنی کوتاہیاں) اور ہمارے اعمال میں ہماری زیادتیاں ہمیں معاف کرو اور ہمارے قدموں کو مضبوط کرو اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ (تخیزۃ الدعاء صفحہ: 16، 15)

Vår Herre, tilgi oss våre feil og våre synder i vår sak, og befest våre føtter og hjelp oss mot det vantro folk.

10- يَا رَبِّ فَاسْمَعْ دُعَائِي وَمَزِّقْ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَائِي وَأَنْجِرْ وَعْدَكَ وَأَنْصُرْ عَبْدَكَ وَأَرِنَا أَيَّامَكَ وَشَهْرِنَا حُسَامَكَ وَلَا تَدْرَمِنَ الْكَافِرِينَ شَرِيرًا-

(تذکرہ صفحہ: 509) (تخیزۃ الدعاء صفحہ: 52)

یعنی اے میرے رب میری دُعا کو سن اور اپنے اور میرے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اپنا وعدہ پورا فرما اور اپنے بندے کی مدد فرما اور ہمیں اپنے (وعدوں کے) دن دکھا اور اپنی تلوار ہمارے لئے سونت لے اور شریر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔

Å, min Herre, bønnhør meg og tilintetgjør Dine og mine fiender. Og fullfør Ditt løft og hjelp Din tjener, og vis oss dager (for oppfyllelse av Dine løfter), og grip Ditt sverd for oss og ikke etterlat noen forneker som sprer onde.

## قرآنی دعائیں

11- سب کچھ اپنے مولیٰ کے حضور پیش کرنے کی ابراہیمیٰ دعا:

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ (الممتحنة: 5)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف جھکتے ہیں۔ اور تیری طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ (تخیزۃ الدعاء صفحہ: 9)

Vår Herre, til Deg setter vi vår lit, og til Deg vender vi oss i anger, og til Deg vender vi tilbake.

12- دُنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا:

وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ ط

(الاعراف: 157)

ترجمہ: اور تو ہمارے لئے اس دُنیا میں بھی نیکی لکھ اور آخری زندگی میں بھی (نیکی لکھ) ہم تو تیری طرف آگئے ہیں۔ (تخیزۃ الدعاء صفحہ: 10)

Og bestem det gode til oss i det nærværende (liv) og i det kommende, for vi har visslig vendt oss til Deg.

13- وساوسِ شیطانی سے بچنے کی دعا:

رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ

يَحْضُرُونِ ۝ (المؤمنون: 98-99)



ترجمہ: اے میرے رب میں سرکش لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب! میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے سامنے آئیں۔ (خزینۃ الدعاء صفحہ: 10)

Min Herre, jeg søker min tilflukt hos Deg fra satanenes tilskyndelser. Og jeg søker tilflukt hos Deg, min Herre, at de ikke kommer meg nær.

14- ثابت قدمی اور انجام بخیر کی دعا:

رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنا مُسْلِمِينَ ۝ (الاعراف: 127)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم پر صبر نازل کر اور ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔  
(خزینۃ الدعاء صفحہ: 15.16)

Vår Herre, gi oss utholdenhet og la oss dø som muslimer ( idet vi har underkastet oss Din vilje).

15- گناہوں کی بخشش اور عذابِ الہی سے بچنے کی دعا:

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقْنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (آل عمران: 17)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں اس لئے تو ہمارے قصور معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ (خزینۃ الدعاء صفحہ: 15)

Vår Herre, vi tror sannelig. Tilgi oss derfor våre synder,  
Og frels oss fra Ildend straff.

## 16- دُعائے رحمت و مغفرت:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا سَكْتَةً وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(الاعراف: 24)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (خزینۃ الدعاضفہ: 16)

vår Herre, vi har handlet urett mot oss selv, og om Du ikke tilgir oss og har barmhjertighet med oss, så vil vi visselig være blant de fortapte.

## 17- حالتِ لاعلمی میں سوال سے بچنے کی دُعائے بخشش و رحمت:

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ط وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (ہون: 48)

ترجمہ: اے میرے رب! میں اس بارہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کے متعلق مجھے حقیقی علم حاصل نہ ہو۔ اور اگر تو میری گزشتہ غفلت کو معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ (خزینۃ الدعاضفہ: 16)

Min Herre, sannelig, jeg søker min tilflukt hos Deg mot at jeg skulle spørre Deg om det jeg ikke har rett til å vite. Og om Du ikke beskytter meg (motfeiltakelse) og er meg barmhjertig. så vil jeg være (en) av de fortapte.

18- بدی کے مقابلہ میں طاقت حاصل کرنے کی دُعا:

رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَاللَّا تَصْرِفْ عَنِّي  
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ (یوسف: 34)

اے میرے رب! جس بات کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت قید خانہ میں جانا زیادہ پسند ہے  
اگر ان کی تدبیر (کے بد نتیجے) کو تو مجھ سے نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں  
میں سے ہو جاؤں گا۔ (تخزینۃ الدعاء صفحہ: 17)

Å min Herre, fengselet er meg kjærere enn det de innbyr  
meg til, og om Du ikke avvender deres list fra meg, kunne  
jeg nærme meg dem og bli en av de uvitende.

19- بیماری سے شفا یابی کی دُعا:

أَنِّي مَسْنِي الضُّرُّوَانَتْ أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ ۝ (الانبیاء: 84)

ترجمہ: (اے میرے رب!) میری یہ حالت ہے کہ مجھے تکلیف نے آ پکڑا ہے اور اے خدا تو سب رحم  
کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ (تخزینۃ الدعاء صفحہ: 18)

Jeg er blitt rammet av lidelse. og Du er den  
barmhjertigste av alle som viser barmhjertighet.

20- رحم و بخشش کی دُعا:

رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمَ ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ۝ (المؤمنون: 119)

ترجمہ: اے میرے رب! معاف کر اور رحم کر اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔

(خزینۃ الدعاء صفحہ: 22)

Min Herre, tilgi og vis barmhjertighet. og Du er den beste av dem som viser barmhjertighet.

21- ظالم بستی کے اہل کے ظلم سے بچنے اور ہجرت کی دعا:

رَبَّنَا آخِرِ جَنَانِنُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (النساء: 76)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی دوست بنا (کر بھیج) اور اپنے حضور سے (کسی کو) ہمارا مددگار بنا (کر کھڑا کر)۔

(خزینۃ الدعاء صفحہ: 25)

Vår Herre, før oss ut av denne byen hvis beboere er undertrykkere, og skjenk oss en beskytter fra Deg Selv, og skjenk oss en hjelper fra Deg Selv.

22- شرح صدر سہولت امر اور زبان میں تاثیر پیدا ہونے کی دعا:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝  
يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ (طہ: 26 تا 29)

ترجمہ: اے میرے رب! میرا سینہ کھول دے اور جو مجھ پر فرض ڈالا گیا ہے اُس کو پورا کرنا میرے لئے آسان کر دے اور اگر میری زبان میں گرہ ہو تو اسے بھی کھول دے۔ (حتیٰ کہ) لوگ میری بات

آسانی سے سمجھنے لگیں۔ (خزینۃ الدعائے صفحہ: 26)

Min Herre, utvid mitt bryst for meg. og gjør min sak lett for meg, og løs knuten fra min tunge. slik at de kan forstå min tale.

23- ترقیاتِ روحانی اور مغفرتِ الہی کی دُعا:

رَبَّنَا أَنْتَ لَنَا نُورٌ نَاوَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التحریم: 9)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمارا نور ہمارے فائدے کے لئے پورا کر دے اور ہمیں معاف فرما۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ (خزینۃ الدعائے صفحہ: 27)

Vår Herre, fullkommengjør vårt lys for oss og tilgi oss, for Du har visselig makt over alle ting.

24- حصولِ خیر کی عاجزانہ دُعا:

رَبِّ اِنِّی لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ (القصص: 25)

ترجمہ: اے میرے رب! اپنی بھلائی میں سے جو کچھ تو مجھ پر نازل کرے میں اُس کا محتاج ہوں۔ (خزینۃ الدعائے صفحہ: 28)

Min Herre, jeg har visselig behov for hva Du vil sende meg av godt,

25- رحمتِ باری کے حصول اور معاملہ میں آسانی کی دُعا:

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا لِنُؤْمِنُ لَكَ رَبَّنَا وَإِنَّا لَنُؤْمِنُ لَكَ رَبَّنَا وَإِنَّا لَنُؤْمِنُ لَكَ رَبَّنَا (الكهف: 11)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں اپنے حضور سے (خاص) رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے  
(اس) معاملہ میں رُشد و ہدایت کا سامان مہیا کر۔ (خزینۃ الدعاء صفحہ: 37)

Vår Herre, gi oss Din barmhjertighet og skjenk oss  
rettledning ( og rettferdighet) i vår sak.

26- توت فیصلہ، صالحیت، نیک شہرت اور جنت کی دُعا:

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ  
فِي الْآخِرِينَ ۝ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ (الشعراء: 84-86)

ترجمہ: اے میرے رب! مجھے صحیح تعلیم عطا کر اور نیکیوں میں شامل کر اور بعد میں آنے والے لوگوں  
میں ہمیشہ قائم رہنے والی تعریف مجھے بخشش اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔

Min Herre, skjenk meg visdom, og foren meg med de  
rettferdige, og skjenk meg et sant( og varig) ry blant dem  
som kommer etter. og gjør meg til (en) av arvingene til  
lykksalighetens hage.

27- پاکیزہ اولاد کے حصول کی دُعا:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۙ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ (آل عمران: 39)

ترجمہ: اے میرے رب! تو مجھے (بھی) اپنی جناب سے پاک اولاد بخش۔ تو یقیناً دُعاؤں کو بہت  
قبول کرنے والا ہے۔ (خزینۃ الدعاء: 41)

Min Herre, skjenk Du meg en ren etterkommer. Du er sannelig den som bønnhører.

28- نیک بیوی اور اولاد کے حصول اور ان کیلئے اچھا نمونہ بننے کی دُعا:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

(الفرقان: 75)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا پیشرو بنا۔ (خزیمۃ الدعاء صفحہ: 43)

Vår Herre, Skjenk oss fra våre ektefeller og våre barn (våre) øynes fryd, og gjøre oss til et forbilde for de gudfryktige (og rettfærdige)

29- ہم دُعا دور کرنے کے لئے صبح و شام پڑھنے کی دُعا:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

(التوبہ: 129)

ترجمہ: اللہ میرے لئے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اُسی پر توکل کرتا ہوں اور وہ عرشِ عظیم کا رب ہے۔ (خزیمۃ الدعاء صفحہ: 51)

Allah er tilstrekkelig for meg: det er ingen gud unntagen Ham: Ham har jeg satt min lit til, og Han er den store tronens Herre.

30- عفو و مغفرت، رحم اور دشمن کے مقابل نصرت طلبی کی جامع دعائیں:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا  
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ  
عَنَّا ۗ وَاعْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ ۝ (البقرة: 287)

ترجمہ: اے ہمارے رب! اگر کبھی ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دیجو۔ اے ہمارے  
رب! اور تو ہم پر (اُس طرح) ذمہ داری نہ ڈالیو جس طرح تُو نے اُن لوگوں پر جو ہم سے پہلے  
(گزر چکے) ہیں ڈالی تھی۔ اے ہمارے رب! اور اسی طرح ہم سے (وہ بوجھ) نہ اٹھوا جس (کے  
اٹھانے) کی ہمیں طاقت نہیں۔ اور ہم سے درگزر کرو اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر (کیونکہ)  
تُو ہمارا آقا ہے۔ پس کافروں کے گروہ کے خلاف ہماری مدد کر۔ (خزینۃ الدعاء صفحہ: 14)

Vår Herre, straff oss ikke om vi glemmer eller feiler. Vår  
Herre, legg ikke et ansvar på oss som Du la på dem før oss.  
Vår Herre, legg ikke en byrde på oss som vi ikke har kraft til å  
bære. og rens oss, og tilgi oss, og ha barmhjertighet med  
oss. Du er vår Herre, Hjelp oss derfor mot det vantro folk.

31- عذاب الہی سے بچنے، مغفرت، نیک انجام اور وعدہ الہی پورا ہونے اور روزِ قیامت رسوائی سے  
بچنے کی دعائیں!

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَا طِلَآءٍ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝  
رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ صَلِّ رَبَّنَا



فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْآبْرَارِ ۝

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا

تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ (آل عمران: 192، 194، 195)

ترجمہ: اے ہمارے رب! تو نے اس (عالم) کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تو (ایسے بے مقصد کام کرنے سے) پاک ہے۔ پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ (اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچا لے)

اے ہمارے رب! ہم نے یقیناً ایک ایسے پکارنے والے کی آواز جو ایمان (دینے) کے لئے بلاتا ہے (اور کہتا ہے) کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سُنّی ہے پس ہم ایمان لے آئے اس لئے اے ہمارے رب! تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ (ملا کر) وفات دے۔

اے ہمارے رب! ہمیں وہ (کچھ) دے جس کا تو نے اپنے رسولوں (کی زبان) پر ہم سے وعدہ کیا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ تو اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔  
(خزینۃ الدعاضی: 12، 13)

Vår Herre, Du har ikke skapt dette forgjeves, Hellig er Du!

Redd oss da fra Ildens straff!

Vår Herre, Vi har hørt en herold som kaller til troen (og sier): Tro på deres Herre-og vi har trodd! Vår Herre, tilgi oss våre synder og tildekk våre forseelser for oss, og la oss dø sammen med de rettferdige!

Vår Herre, gi oss det Du har lovet oss ved Dine sendebud, og beskjem oss ikke på Oppstandelsens dag! Du bryter i sannhet ikke Ditt løfte!

32- مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی دُعا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ (الانبیاء: 88)  
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ (خزینۃ الدعاضفہ: 17)

Det er ingen gud unntatt Deg! Hellig er Du (og fri for enhver mangel). Jeg hører visselig til dem som har feilet.

33- اپنی، اپنے والدین اور مومنوں کی بخشش کی دُعا:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ  
 وَالْمُؤْمِنَاتِ ط وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (نوح: 29)

اے میرے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ہر اُس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوتا ہے اُس کو بخش دے اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بھی، اور یوں ہو کہ ظالم صرف تباہی میں ہی ترقی کریں (ان کو کامیابی نصیب نہ ہو) (خزینۃ الدعاضفہ: 33)

Min Herre, tilgi meg og mine foreldre og den som trer inn i mitt hus som troende, og de troende menn og de troende kvinner. og la kun de urettferdige tilta i ædeleggelse.

34- تلافی کوتاہی کے لئے صبح و شام پڑھنے کی دُعا

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  
 وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ وَكَذَلِكَ  
 تُخْرَجُونَ ۝ (الروم: 20-18)

ترجمہ: پس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کے وقت میں داخل ہو یا صبح کے وقت میں داخل ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور بعد دوپہر بھی اُس کی تسبیح کرو اور اسی طرح (عین) دوپہر کے وقت بھی۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مرجانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ (تخیزۃ الدعا صفحہ: 49)

Så lovpriset er Allah, når dere kommer til kvelden, eller når dere kommer til morgenen. Og Ham tilkommer all lovprisning i himlene og på jorden, og (lovpris Ham også) om natten og når dere kommer til tiden om ettermiddagen. Han frembringer det levende av det døde, og Han frembringer det døde av det levende, og Han gjør jorden levende etter dens død, og slik skal dere bringes frem.

(Oversettelsen er fra Koranen) (قرآنی دعائیں تخیزۃ الدعا سے لی گئی ہیں۔)

## چہل احادیث

مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى  
فِيهَا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا -

جس شخص نے میری اُمت کے لوگوں کو سنانے کے لئے اور سمجھانے کے لئے چالیس حدیثیں یاد رکھیں  
جو کہ دین کے متعلق ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقہا اور علماء کے زمرہ میں جگہ دے گا اور میں  
قیامت کے روز اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔

^^Den som lærer seg 40 tradisjoner for å berette og  
forklare dem til folk av min ummah, så vil Allah på  
Oppstandelsensdag skjenke ham/henne en stilling blant  
de skriftlærde og de kyndige, og jeg vil vitne til hans/  
hennes fordel^^

1-لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ

نہیں ہے سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح۔

"Å høre om en hendelse av andre, er ikke det samme  
som å ha observert det selv."

2- الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

لڑائی داؤ پیچ کا نام ہے۔

Strategi er en fundamental del av krig.

3- الْمُسْلِمُ مِرَاةُ الْمُسْلِمِ

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔

En muslim er et speil for en annen muslim.

4- الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔

Den som blir rådspurt er pålagt å bevare tillit.

5- الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

نیکی پر آگاہ کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔

Den som oppfordrer andre til gode handlinger , er som den som har utført en god handling.

6- اسْتَعِينُوا عَلَى الْحَوَائِجِ بِالْكَتْمَانِ

مدد چاہو اپنی ضرورت پر رازداری کے ساتھ۔

Søk hjelp i fortrolighet i henhold til dine behov.

7- اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

بچو دوزخ کی آگ سے اگر چہ کھجور کا آدھا حصہ دے کر۔

Beskytt deg mot Helvetets Ild om det så er gjennom å ofre en halv daddel.

8-الدُّنْيَا سَجْنٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةٌ لِّلْكَافِرِ

دُنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔

Denne verden er et fengsel for den troende, og et paradisi for den vantro.

9-الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلِّهِ

حیاء سراسر بہتر ہے۔

Kyskhhet er det aller beste.

10-عِدَّةُ الْمُؤْمِنِ كَأَخْذِ الْكَفِّ

مومن کا وعدہ ایسا ہی سچا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ میں دیدی جائے۔

Et løfte gitt av en troende er så sant som en ting blir gitt i hånden.

11-لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔

En troende bør ikke bryte kontakt med sin troende bror i mer enn tre dager.

12- يُسَىٰ مِنَّا مَنْ عَشَّنَا

وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو ہمیں دھوکہ دے۔

Den som bedrar oss, er ikke en av oss muslimer.

13- مَا قُلٌّ وَ كَفَىٰ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَ الْهَىٰ

جو مال تھوڑا اور کافی ہو وہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔

Den økonomien som er lite, er bedre det som er mye og føre til forsømmelse.

14- الرَّاجِعُ فِي هَبَّتِهِ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْتِهِ

اپنی دی ہوئی چیز کو واپس مانگنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی کی ہوئی تے کو واپس لے۔

Den som tar tilbake sin gave, er som den som tar tilbake sitt eget oppkast.

15- أَلْبَاءٌ مُّوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

بعض دفعہ مصیبت موقوف ہوتی ہے بات کرنے پر۔

Å snakke (uten å tenke seg om) fører til vanskelighetet.

16- أَلْنَا سُّ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ

تمام لوگ کنگھی کے دندانوں کی مانند ہیں۔

Alle mennesker er likeverdige, slik som kammens tagger.

17- الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ

دولتمندی تو دل کی دولت مند ہی ہے۔

Den virkelige rikdommen er hjertets rikdom.

18- السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ

سعادت مند وہ ہے جو نصیحت پکڑے اپنے غیر کے حال سے۔

Salig er den som lar seg formane av andres tilstand.

19- إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

بعض شعر بڑے پر حکمت ہوتے ہیں اور بعض بعض تقریریں تو جادو ہوتی ہیں۔

Noen vers er fulle av visdom og noen foredrag er fortryllende.

20- عَفْوُ الْمُلُوكِ اِبْقَاءٌ لِلْمَلِكِ

بادشاہوں کا معاف کر دینا ان کی سلطنت کی بقاء کا باعث ہوتا ہے۔

Kongenes tilgivelse fører til at deres herredømmet blir opprettholdet.

21- اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔

Man står ved den har kjær.

22- مَا هَلَكَ اِمْرٌ عَرَفَ قَدْرَهُ



نہیں ہلاک ہو اوہ آدمی جس نے پہچان لی اپنی حقیقت۔

Den som kjenner sin egen sannhet vil ikke gå til grunne.

23-الصلوة عماد الدين -

نماز دین کا ستون ہے۔

Bønnen er religionens pilar.

24-أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ أَيْدِ السُّفْلَى

اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔

Den øverste hånden, er bedre enn den nedesste.

25-لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

نہیں شکر کرتا اللہ کا جو نہیں شکر کرتا بندوں کا۔

Den som ikke er takknemlig overfor mennesker, er ikke takknemlig overfor Allah.

26-حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔

Din kjærlighet til noe, gjør deg blind og døv.

27-جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا بُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا

فطرت میں رکھی گئی ہے دلوں کی محبت اس شخص کی جو اس کا محسن ہو اور بغض اس شخص کا جو کوئی برائی

کرے ان سے۔

Det ligger i menneskets natur å elske den som handler godt mot det, og ha nag til den som handler ondt mot det.

28-التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

توبہ کرنے والا گناہ سے، اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔

Den som angret etter en synd, er som den som ikke har syndet.

29-الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْغَائِبُ

حاضر آدمی وہ کچھ دیکھتا ہے جسے غیر حاضر نہیں دیکھ سکتا۔

Personen som er tilstede kan se det som den fraværende ikke kan se.

30-إِذَا جَاءَ كُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَآكْرِمُوهُ

جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔

Når en ærverdig person fra et folkeslag kommer til deg, så vis respekt overfor denne.

31-الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ بِلَاقِعَ

جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔

Falsk ed gjør at hjemmet blir ruinert.

32- مَنْ قُتِلَ دُونَ مَا لَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ.

جو شخص قتل کیا جاوے اپنے مال کو بچاتے ہوئے تو وہ شہید ہے۔

Den som blir drept mens vedkommende beskytter sin eiendom og eiendeler er en martyr.

33- الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

اعمال نیت پر موقوف ہیں۔

Handlinger avhenger av intensjonen.

34- سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

قوم کا سرداران کا خادم ہوتا ہے۔

Et folksleder er i grunn deres tjener.

35- خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

کاموں میں سب سے زیادہ بہتر میانہ روی والا کام ہوتا ہے۔

I enhver sak er middelveien den beste.

36- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْ اُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ

اے اللہ برکت دے میری اُمت کے صبح کے سفر میں جمعرات کے دن۔

Å, Allah! Velsign torsdagens morgengry for min ummah.

37- كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

قریب ہے کہ غربی کفر بن جائے۔

Det er nær forestående at fattigdom leder til fornektelse.

38- السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔

Reise er en liten bit av Helvets straff.

39- الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

مجلسیں امانت کے ساتھ ہونی چاہئیں۔

Forsamlinger bør avholdes med fortrolighet og tillit.

40- خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى

سب سے بہتر زادِ راہ تقویٰ ہے۔

Den beste provianten for reisen ( til det hinsidige)  
er gudfryktighet.

(چہل احادیث و دعائیہ خزانہ سے لی گئی ہیں۔)

(Oversatt av Lajna)

## شرائطِ بیعت

1- بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

Den som inngår troskapspakten skal med oppriktig hjerte love å avholde seg fra sjirk( å sette noen lik med Allah.

2- یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بدنظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آئے۔

At han/hun skal avholde seg fra all form for løgn, hor, øyets overtredelser, utsvevelse og utskielser, grusomhet, uhederlighet, stifte ufred og opprør. Og ved opphisselse av sine sanslige begjær skal han/hun ikke la seg bli drevet av disse, hvor sterke de enn måtte være.

3- یہ کہ بلا ناغہ پنج وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا۔ اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا۔ اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد و تعریف کو اپنا ہر روز ورد بنا لے گا۔

At han/hun regelmessig vil forrette de foreskrevne fem daglig bønnene i overensstemmelse med Gud og Profetens befaling. Og at han/hun vil gjøre sitt beste for å be tahadjud (frivillig nattbønn), nedkalle durud (velsignelser) over sin hellige Profet, Allah velsignelser og fred være med ham, gjøre det til sin vane å daglig be om tilgivelse for sine synder og å gjøre istighfår (be om at Gud dekker over ens feil) og med oppriktig kjærlighet, ved å ihukomme Gud den Opphøydes velsignelser, gjøre det til sin daglige vane å lovprise og for herlige Ham.

4- یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ نہ کہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے۔

At han/hun, under opphisselse av sine sanselige begjær, ikke urettmessig vil påføre Allahs skapninger generelt og muslimer spesielt noen lidelser. Verken gjennom tungen, hånden eller på andre måter.

5- یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اُس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔

At han/hun vil fobi trofast mot Allah under alle omstendigheter, i sorg og glede, motgang og framgang, i lykke og under prøvelser, og at han/hun under alle omstendigheter vil være tilfreds med Allahs forordning, og være beredt til å møte alle ydmykelser og lidelser på Hans vei og aldri vende seg bort fra denne veien ved motgang av noe slag- tvert om skal han/hun marsjere fremad.

6- یہ کہ اتباع رسم اور متابعت ہو اور ہوس سے باز آجائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بگلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنی ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔

At han/hun vil av holde seg fra å følge uislamiske skikker og lystige tilbøyeligheter, og vil underkaste seg helt Denhellige Koranens autoritet og gjøre Allahs ord og Profetens utsagn til rettesnor i alle livets faser.

7- یہ کہ تکبر اور نخوت کو بگلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔

At han/hun vil oppgi sitt hovmod og sin forfengelight og leve sitt liv i beskjedenhet, ydmykhet, munterhet, overbærenhet og saktmodighet.

8- یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی، اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر عزیز سے زیادہ عزیز تر سمجھے گا۔

At han/hun vil holde troen, troens ære og sympati for Islam mer kjærte enn sitt liv og sine eindeler og sin ære og sine barn og alle andre kjære.

9- یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض اللہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

At han/hun hengivent vil tjene Allahs skapninger - alene for Allahs skyld, og at han/hun vil gagne menneskeheten etter sine beste gudgitte evner og nådegaver.

10- یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض اللہ باقر اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقات اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

At han/hun vil knytte et broderlig bånd til denne ydmyke person for Allahs skyld alene, og adlyde meg i alt godt og forbli trofast mot dette løftet til den dag han/hun dør.

At han/hun skal utvise en slik hengivenhet for opprettholdelse av dette broderlige båndet hvis like ikke er å finne i verdslige forholde og relasjoner, og ikke er å



finne i andre sammenhenger som krever opriktig  
pliktoppfyllelse.

(Oversatt av Khudam-Ui-Ahmadiyya)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَدَمَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ -

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ -

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم حفظ کر کے جو دولت انہوں نے کمائی ہے، کسی اور کے پاس یہ دولت نہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے۔

"لوگوں میں سب سے غنی حاملین قرآن یعنی قرآن کریم حفظ کرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔"

Den ærverdige profeten (sa) har arklart at den beste er den som besitter åndelig rikdom.

Det vil si at den som memoriserer Den ærverdige Koranen utenat, oppnår en rikdom som ingen andre innehar. Vår kjære profet Hadhrat Muhammad (sa) beretter.

" Den som er mest rik, er den som memoriserer .Den ærverdige Koranen utenat. I deres hjerter har Allah bevart Koranen."

(شعبہ تعلیم لجنہ اماء اللہ ناروے)